



## ندا ڈار کو انگلینڈ کے خلاف قومی ویمنز ٹیم سے بہتر کارکردگی کی امید

- سیریز میں شامل تینوں ایک روزہ میچز پی سی سی بی کے یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریم کیے جائیں گے

لاہور، 2 دسمبر 2019ء:

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کو آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ میں شامل تین ایک روزہ میچوں کی میزبانی کرنی ہے۔ 9 دسمبر سے ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں شروع ہونے والی سیریز میں پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔

قومی ویمنز ٹیم آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر پانچویں اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ سیریز میں کامیابی قومی ویمنز ٹیم کو نیوزی لینڈ میں شیڈول آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈکپ 2021 میں رسائی کا براہ راست موقع فراہم کرے گی۔

اس حوالے سے قومی ویمنز کرکٹ ٹیم میں شامل ندا ڈار سمیت سینئر کھلاڑیوں سے سیریز میں بہتر کارکردگی کی توقع ہے۔ ندا ڈار نے نو سال قبل پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا۔

آراؤنڈر ندا ڈار اب تک پاکستان کی جانب سے کل 167 ایک روزہ اور ٹی ٹوئنٹی میچوں میں شرکت کرچکی ہیں۔ ندا ڈار ویمنز بگ بیش لیگ میں شرکت کرنے والی واحد پاکستانی خاتون کرکٹر ہیں۔ گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے ندا ڈار نے ویمنز بگ بیش لیگ کے حالیہ ایڈیشن میں سڈنی تھنڈر کی نمائندگی کی۔

ایونٹ میں دس سے زائد وکٹیں حاصل کرنے والی باؤلرز میں ندا ڈار نے 14.7 کے اسٹرائیک ریٹ کے علاوہ 16.92 کی اوسط سے باؤلنگ کی جو ویمنز بگ بیش لیگ کے حالیہ ایڈیشن میں کسی بھی خاتون باؤلر کی دوسری بہترین اوسط رہی۔ 11 میچوں میں 13 وکٹیں حاصل کرنے والی ندا ڈار ایک روزہ سیریز میں بہترین کارکردگی دکھانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔

ندا ڈار کا کہنا ہے کہ ویمنز بگ بیش لیگ میں شرکت ایک بہترین تجربہ تھا اور وہ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے دوران قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بمعہ معروف سے اس مفید تجربے کا تبادلہ ضرور کریں گی۔

ندا ڈار نے کہا کہ سب سے اہم چیز میچ میں بدلتی صورتحال کو بھانپنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین ٹیموں میں زیادہ فرق نہیں ہے تاہم انٹرنیشنل میچ میں کامیابی کے لیے قومی کرکٹرز کو اعصابی مضبوطی درکار ہوگی۔ ندا ڈار نے کہا کہ جو ٹیم میچ کے روز بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی وہی جیت کی حقدار ٹھہرے گی۔

دونوں ٹیمیں اس سے قبل 8 مرتبہ ایک دوسرے کے مدمقابل آچکی ہیں۔ تمام میچوں میں انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی تاہم دونوں ٹیموں کے درمیان 2017 میں کھیلے گئے آخری ایک روزہ میچ میں ندا ڈار نے 5 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

32 سالہ خاتون کرکٹر پر امید ہیں کہ قومی خواتین کرکٹ ٹیم اس مرتبہ انگلینڈ کے خلاف تاریخ بدل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ویمنز ٹیم کی فیلڈنگ میں بہتری آئی ہے جبکہ کھلاڑیوں کے فٹنس لیول میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ندا ڈار کا کہنا ہے کہ قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی اکثریت اس سے قبل انگلینڈ کے خلاف میدان میں نہیں اتری جس کے باعث پاکستان ایک روزہ سیریز میں حریف ٹیم کو سرپرائز کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔

ثناء میر کی عدم موجودگی میں ندا ڈار کی ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے تاہم 32 سالہ آلراؤنڈر نے اسے چیلنج سمجھ کر قبول کیا ہے۔ ندا ڈار نے کہا کہ ثناء میر قومی کرکٹ ٹیم کا اہم حصہ ہیں اور انہیں ثناء میر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ 28.53 کی اوسط سے 66 ایک روزہ وکٹیں حاصل کرنے والی آلراؤنڈر ندا ڈار کا کہنا ہے کہ گذشتہ چند سالوں میں کرکٹ میں اسپنرز کا کردار اہمیت اختیار کر گیا ہے۔

پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کے ساتویں راؤنڈ کا حصہ ہے۔ 9، 12 اور 14 دسمبر کو شیڈول تینوں میچز کنرارا اول کو الالمپور میں کھیلے جائیں گے۔ 2017 سے 2020 تک جاری رہنے والے تین روزہ سائیکل کے اختتام پر چار بہترین ٹیمیں آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ 2021 میں براہ راست رسائی حاصل کریں گی۔

تینوں ایک روزہ میچز پی سی بی کے یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریم کیے جائیں گے۔

اسکواڈ:

ایک روزہ سیریز:

بسمعہ معروف (کپتان)، عالیہ ریاض، انعم امین، عروب شاہ، ڈیانا بیگ، فاطمہ ثناء، جویریہ خان، کائنات حفیظ، ناپیدہ خان، نشرہ سندھو، ندا ڈار، عمیمہ سہیل، رامین شمیم، سدرہ امین اور سدرہ نواز۔

ٹیم آفیشلز:

عائشہ جلیل (ٹیم منیجر)، سید اقبال امام (ہیڈ کوچ)، عبدالمجید (فیلڈنگ کوچ)، جمال حسین (اسٹریٹھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ)، زبیر احمد (اینالسٹ)، ساجدہ فجر (فزیوتھراپسٹ) اور احسن افتخار ناگی (میڈیا منیجر)۔

شیڈول:

9 دسمبر: پہلا ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرار اکیڈمی اوول (آئی سی ویمنز چیمپئن شپ)  
12 دسمبر: دوسرا ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرار اکیڈمی اوول (آئی سی ویمنز چیمپئن شپ)  
14 دسمبر: تیسرا ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ بمقام کنرار اکیڈمی اوول (آئی سی ویمنز چیمپئن شپ)

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)